

حضرت فاطمہ زہرا(ع) عظیم نعمت الہی

<?xml encoding="UTF-8">

امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ”یَاسِیْدَةُ نِسَائِ الْعَالَمِیْنَ“ - ر اوی نے سوال کیا کہ ”ہی سَیْدَةُ نِسَائِ الْعَالَمِہَا؟“، کیا آپ کی جدہ امجد اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھیں؟ امام نے جواب دیا کہ ”ذَاکَ مَرِیْمَ“، وہ جناب مریم تھیں جو اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھیں، ”ہی سَیْدَةُ نِسَائِ الْأَوَّلِیْنَ وَالْآخِرِیْنَ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ“ ۱، ”وہ دنیا و آخرت میں اولین و آخرین کی سرور زنان ہیں“ اور ان کی یہ عظمت ان کے زمانے تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ تمام مخلوقات عالم میں پوری تاریخ میں خلق کیے گئے ان کھربوں انسانوں کے درمیان اگر انگلیوں پر شمار کی جانے والی بہترین شخصیات کو ڈھونڈنا چاہیں تو ان میں سے ایک یہی مطہرہ ومنورہ شخصیت ہے کہ جس کا نام اور یاد و ذکر ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے فضل و احسان کے ذریعے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اپنی زندگی کے کچھ حصوں کو اُن کی یاد میں بسر کریں، اُن کے بارے میں باتیں کریں اور اُس عظیم ہستی سے متعلق باتوں کو سنیں۔ لوگوں کی اکثریت اُن سے غافل ہے جبکہ یہ ہم پر خداوند متعال کا بہت بڑا لطف و کرم ہے کہ ہم اُن سے متمسک ہیں۔

یعنی وہ اتنی عظیم المرتبت شخصیت کی مالک ہیں کہ بڑے بڑے مسلمان علما اور مفکرین یہ بحث کرتے تھے کہ کیا حضرت زہرا علیہا السلام کی شخصیت بلند ہے یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ؑ کا مقام زیادہ ہے؟ کیا یہ کوئی کم مقام و حیثیت ہے کہ مسلمان علما بیٹھیں اور ایک کہے کہ علی کا مرتبہ زیادہ بلند ہے اور ایک کہے زہرا علیہا السلام کی عظمت زیادہ ہے! یہ بہت بلند مقام ہے۔ لہذا اُس عظیم المرتبت ذات سے ہمارے تعلق اور محبت نے ہمارے دوش پر ایک بہت سنگین ذمہ داری عائد کی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اُس عظیم ذات کی سیرت اور نقش قدم پر چلیں، خواہ ان کا ذاتی و انفرادی کردار ہو یا اُن کی اجتماعی و سیاسی زندگی۔ راستہ یہی ہے کہ جس نے آج خداوند عالم کے فضل و کرم سے لوگوں کیلئے انقلاب کی راہ ہموار کی ہے۔

یہ وہی حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کی راہ ہے یعنی خود سازی (تعمیر ذات) اور جہان سازی (تعمیر دنیا) کی راہ۔ خود سازی یعنی اس جان و روح کی آبادی و تعمیر کہ جس کیلئے جسم کا پیکر خاکی دیا گیا ہے۔ فاطمہ زہر علیہا السلام ”كَانَتْ تَقُومُ فِی مِحْرَابٍ عِبَادَتِہَا حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَہَا“ ۲۔ اس عظیم اور جوان دختر نے کہ جو اپنی شہادت کے وقت صرف اٹھارہ سال کی تھی، اتنی عبادت کی آپ کے پاؤں ورم کرجاتے تھے! یہ عظیم المرتبت خاتون اتنے عظیم مقام و منزلت کے باوجود گھر کے کام بھی خود انجام دیتی تھیں اور شوہر کی خدمت بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت بھی انہی کے ذمہ تھی۔

حضرت فاطمہ علیہا السلام کے بچپن کا سخت ترین زمانہ

یہ عظیم خاتون ایک گھریلو عورت تھی، اس کا اپنا گھر تھا، شوہر، بچے سب کچھ اور یہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی ماں بھی تھی۔ یہ بانوئے عصمت و طہارت، زندگی کے سخت سے سخت مراحل میں اپنے شوہر اور والد کیلئے دلجوئی اور دلگرمی کا سبب تھی۔ حضرت زہر علیہا السلام نے بعثت کے پانچویں سال دنیا میں قدم رکھا کہ جب پیغمبر اکرمؐ کی دعوت حق اپنے عروج پر تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ تمام سختیوں، مشکلات اور

مصائب نے پیغمبر اکرمؐ اور ان کے گھرانے کو اپنے نشانے پر لیا ہوا تھا۔

یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ حضرت فاطمہ علیہا السلام کی ولادت کے وقت شہر کی خواتین حضرت خدیجہ علیہا السلام کی مدد کیلئے نہیں آئی تھیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب پیغمبر اکرمؐ کفار سے مقابلہ کر رہے تھے تو اس وقت کفار مکہ نے آپ کا ہر طرح سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور ہر قسم کے رابطے اور تعلقات کو بالکل قطع کر دیا تھا تاکہ اس کے ذریعے رسول خداؐ پر دباو ڈالا جاسکے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں حضرت خدیجہ علیہا السلام جیسی فداکار اور ایثار کرنے والی عورت نے استقامت دکھائی۔ آپ اپنے شوہر حضرت ختمی مرتبتؐ کی دلجوئی فرماتیں اور اس کے بعد گھر میں اپنے بیٹی کی دیکھ بھال اور تربیت کرتیں۔ جب یہ دختر نیک اختر بڑی ہوئی اور پانچ چھ سال کی عمر کو پہنچی تو شعب ابی طالبؑ کا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے اس کو ہستانی وادی کی گرمی، بھوک، سختی، دباو اور غریب الوطنی کی مشکلات کو اس وقت تحمل کیا کہ جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ شعب ابی طالبؑ میں آفتاب کی تمازت سے دھکنے والے دن، سرد راتیں اور اس علاقے کی شب و روز میں ناقابل تحمل آب و ہوا، ان دشوار حالات میں بچے بھوکے پیٹوں اور تشنہ لبوں کے ساتھ ان افراد کے سامنے تڑپتے رہتے تھے۔ سختی اور مشکلات کے یہ تین سال کہ رسول اکرمؐ نے مکے سے باہر بیابان میں اسی طرح گزارے۔

فاطمہ زہرا علیہا السلام اپنے والد کی مونس و غمخوار

یہ بیٹی، ان سخت ترین حالات میں اپنے والد کیلئے فرشتہ نجات تھی اور یہ زمانہ تھا کہ جب حضرت خدیجہ علیہا السلام نے داعی اجل کو لبیک کہا اور یہی وقت تھا کہ جب آپ کے محسن اور چچا، حضرت ابو طالبؑ نے دنیا سے رخت سفر باندھا اور پیغمبر اکرمؐ کو یکتا و تنہا چھوڑ دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب یہ بیٹی اپنے باپ کی دلجوئی کرتی تھی، ان کی خدمت کرتی اور غم و مشکلات کی گرد و غبار کو ان کو چہرے سے صاف کرتی۔ اس بچی نے اپنے باپ کی اتنی خدمت کی کہ پیغمبرؐ نے اس سات، آٹھ سالہ دختر کو کہا ”اُمِّ اَبِيہَا“، یعنی ”ماں“ یعنی یہ بچی اپنے والد کی ماں کی طرح دیکھ بھال کرتی تھی۔

ایسا باپ کہ عالم کی تمام مشکلات نے جسے اپنے نشانے پر لیا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود تمام بشریت کی ہدایت کی ذمہ داری اُس کے دوش پر تھی۔ وہ ایسا پیغمبر تھا کہ اُس کا رب اُسے سختیوں، مشکلات، غموں کے برداشت کرنے اور حق میں مسلسل اور اُن تھک محنت و مشقت کی وجہ سے اس کی دلجوئی کرتا ہے۔ ”طَه مَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى“ ۳ اے رسول تم خود کو اتنی سختی میں کیوں ڈالتے ہو؟ اتنا رنج کیوں اٹھاتے ہو اور اپنی پاک و پاکیزہ روح پر اتنا دباو کیوں ڈالتے ہو؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خدا اپنے حبیب کو تسلی دیتا ہے۔ ان سخت ترین حالات میں حضرت ختمی مرتبتؐ کی روح پر دباو بہت زیادہ تھا اور دشوار ترین حالات میں یہ چھوٹا فرشتہ، معنوی و ملکوتی روح کی حامل بیٹی اور دختر پیغمبر اکرمؐ اس نور کی مانند ہے جو پیغمبر اکرمؐ اور نئے مسلمان ہونے والے افراد کی تاریک شبوں میں اپنی پوری آب و تاب اور نورانیت کے ساتھ چمک رہا ہے۔ امیر المومنینؑ کا وجود بھی بالکل ایسا ہی نورانی تھا۔ روایت میں ہے کہ ”سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ زَهْرًا“ ۴۔ حضرت فاطمہ کو ”زہرا“ اس لیے کہا جاتا ہے آپ دن میں تین بار حضرت علیؑ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ فرماتیں۔

حضرت فاطمہ علیہا السلام کی علمی فضیلت اور راہ خدا میں آپ کا جہاد

اگر عورت مرد کی پشت پناہ ہو اور زندگی کے مختلف میدان ہائے عمل میں اُس کے شانہ بشانہ، قدم بقدم اور اس کی ہمت و حوصلے کو بڑھانے والی ہو تو مرد کی قوت و طاقت کئی برابر ہوجاتی ہے۔ یہ حکیمہ، عالمہ اور محدثہ خاتون، یہ خاتون کہ جو عالم ہائے غیب سے متصل تھی، یہ خاتون کہ فرشتے جس سے ہمکلامی کا شرف حاصل کرتے تھے ۵ اور یہ عظیم المرتبت ہستی کہ جس کا قلب، علیؑ و پیغمبرؐ کے قلوب کی مانند ملک و ملکوت کے عالموں کی نورانیت سے منور تھا، اپنی تمام تر استعداد و صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اور اپنے تمام تر اعلیٰ درجات کے ساتھ تمام مراحل زندگی میں جب تک زندہ رہی (اپنے شوہر، صحابی رسولؐ، اپنے امام وقت اور) امیر المومنینؑ کے پیچھے ایک بلند و بالا اور مضبوط پہاڑ کی مانند کھڑی رہی۔

آپ نے اپنے امام وقت اور اس کی ولایت کے دفاع کیلئے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور حضرت علیؑ کی حمایت میں ایک بہت ہی فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کے علما اور دانشوروں نے اس خطبے کی فصاحت و بلاغت، اعلیٰ اور بے مثال کلمات، جملوں کی ترتیب، معانی اور اُس کے ظاہر و باطن کی خوبصورتی سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا ہے! یہ نکتہ بہت ہی عجیب ہے۔ علامہ مجلسی نے آئمہ علیہم السلام سے اتنی کثیر تعداد میں روایات کو نقل کیا اور ہمارے لیے گرانبہا ذخیرہ چھوڑا ہے لیکن جب اس خطبے کے مقابل اپنے آپ کو پاتے ہیں تو اُن کا وجود فرط جذبات و احساسات اور خطبے کی عظمت سے لرز اٹھتا ہے! یہ بہت ہی عجیب خطبہ ہے اور اسے نہج البلاغہ کے خوبصورت اور فصیح و بلیغ ترین خطبوں کا ہم وزن شمار کیا جاتا ہے۔

ایسا خطبہ جو شدید ترین غم و اندوہ کے عالم میں، مسجد النبیؐ میں سینکڑوں مردوں اور مسلمانوں کے سامنے دیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ بغیر کسی تیاری اور تفکر کے فی البدیعی اس عظیم خاتون کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ اس کا وہ بیان رسا، اس کی حکمتیں، عالم غیب سے اُس کا رابطہ، وہ عظیم ترین مطالب، وہ معرفت الہی و شریعت کے گوہر ہائے بے مثل و نظیر، وہ عمق و گہرائی، وہ عظمت الہی کو بیان کرنے والے کلام کی رفعت و بلندی اور سب سے بڑھ کر وہ نورانی قلب کہ جس سے حکمت و معرفت کہ یہ چشمے جاری ہوئے، وہ نورانی بیان کہ جس نے سب کو مبہوت کردیا اور وہ نورانی اور مبارک زبان کہ جس کے ذریعے اُس خاتون نے اپنے کلمات کو خدا کی راہ میں بیان کیا۔ اس تمام عظمت و فضیلت کے بارے میں ہمارے سرمائے کی کیا حیثیت ہے کہ اگر ہم اُسے مکمل طور پر خدا کی راہ میں خرچ کردیں! ہمارے سرمائے کی کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا سرمایہ اُس عظیم سرمائے کہ جسے حضرت زہر علیہا السلام، اُن کے شوہر، اُن کے والد ماجد اور ان کی اولاد نے خدا کی راہ میں خرچ کیا، قابل مقایسہ ہے؟!

ہمارا یہ مختصر علم، ہماری یہ ناقابل قوت بیان و زبان، قلیل سرمایہ، مختصر پیمانے پر ہمارا اثر و نفوذ، ہماری محدود صلاحیتیں اور نچلی سطح کی مختصر سی معرفت اُس عظیم اور بے مثل و نظیر ذخیرے کے مقابلے میں کہ جسے خداوند عالم نے حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کے ملکوتی و نورانی وجود میں قرار دیا تھا، کس اہمیت کا حامل ہے؟! ہمارے پاس ہے ہی کیا جو راہ خدا میں بخل سے کام لیں؟ آج علیؑ، فاطمہ علیہما السلام اور آئمہ کی راہ وہی امام خمینیؑ کی راہ ہے۔ اگر کسی نے اس (راہ اور اس راہ دکھانے والی شخصیت) کو نہ جانا اور نہ سمجھا ہو تو اسے اپنی بصیرت کے حصول کیلئے از سر نو جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، اسی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اہل بیتؑ سے ہمارے تعلق اور لگاؤ کو حقیقت کا رنگ

فاطمہ علیہا السلام، عالم ہستی کا درخشاں ستارہ

ہم نے حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کے بارے میں حقیقتاً بہت کم گفتگو کی ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں علم کہ ہم کیا کہیں اور کیا سوچیں؟ اس انسِیہ حورائ، روح مجرد اور خلاصہ نبوت ولایت کے بابرکت وجود کے ابعاد اور جہات ہمارے سامنے اتنے زیادہ وسیع، لامتناہی اور ناقابل درک ہیں کہ ہم جب اس شخصیت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وادی حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ آپ اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ زمانہ اُن من جملہ سے تعلق رکھتا ہے کہ جو انسان کو شخصیت کہ صحیح طور پر پہنچانے اور درک کرنے کی راہ میں مانع ہوتے ہیں۔ عالم بشریت کے اکثر و بیشتر ستارے اپنی حیات میں اپنے ہم عصر افراد کے ذریعے ناقابل شناخت رہے اور انہیں پہنچانا نہیں گیا۔ انبیا و اولیا میں سے بہت کم افراد ایسے تھے جو اپنے قریبی ترین مخصوص و مختصر افراد کے ذریعے پہچانے گئے۔ لیکن حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ جس کی نہ صرف اپنے زمانے میں اپنے والد، شوہر، اولاد اور خاص شیعوں کے ذریعے سے بلکہ اُن افراد کے ذریعے سے بھی کہ جو حضرات زہرا علیہا السلام سے شاید اتنے قریب بھی نہیں تھے، مدح و ثنا کی گئی ہے۔

اہل سنت کی کتابوں میں حضرت زہرا علیہا السلام کی شخصیت

اگر آپ اہل سنت محدثین کی حضرت زہرا علیہا السلام کے بارے میں لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام ؐ کی زبان حضرت صدیقہ طاہرہ علیہا السلام کی مدح و ستائش میں بہت سی روایات نقل کی گئی ہیں یا حضرت زہرا علیہا السلام سے آنحضرتؐ کے کردار و سلوک کو بیان کیا گیا ہے یا ازواج نبی یا دیگر شخصیات کی زبانی تعریف کی گئی ہے۔

حضرت عائشہ سے یہ معروف حدیث نقل کی گئی ہے ”وَاللّٰهُ مَا رَأَيْتُ فِي سَمْتِهِ وَهَدْيَةِ أَشْبَهَ بِرَسُولِ اللّٰهِ مِنْ فَاطِمَةَ“۔ مینے پیغمبر اکرم کی شکل و شمائل، ظاہری قیافے، درخشندگی اور حرکات و رفتار کے لحاظ سے کسی ایک کو بھی فاطمہ سے زیادہ شبہت رکھنے والا نہیں پایا۔ ”وَكَانَ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ قَامَ إِلَيْهَا“۔ جب فاطمہ زہرا علیہا السلام رسول اللہ کے پاس تشریف لائیں تو آپؐ اُن کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور مشتاقانہ انداز میں ان کی طرف بڑھ کر اُن کا استقبال کرتے۔ یہ ہے ”قَامَ إِلَيْهَا“ کی تعبیر کا معنی۔ ایسا نہیں تھا کہ جب حضرت زہرا علیہا السلام تشریف لاتیں تو آپؐ صرف کھڑے ہو کر اُن کا استقبال کرتے، نہیں! ”قَامَ إِلَيْهَا“ یعنی کھڑے ہو کر اُن کی طرف قدم بڑھاتے۔ بعض مقامات پر اسی راوی نے اس روایت کو اس طرح نقل کیا ہے کہ ”وَوَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَيُجْلِسُهَا مَجْلِسَهُ“۔ ”وہ حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کو پیار کرتے، چومتے اور اُن کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے“۔ یہ ہے حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کا مقام و منزلت۔ اس باعظمت شخصیت کے بارے میں ایک عام انسان کی کیا مجال کہ وہ لب گشائی کرے!

سیرت حضرت زہرا علیہا السلام کی کما حقہ معرفت

میرے محترم دوستو! حضرت فاطمہ علیہا السلام کی عظمت و فضیلت اُن کی سیرت میں واضح و آشکار ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم حضرت زہرا علیہا السلام کے بارے میں کیا شناخت و آشنائی رکھتے ہیں۔ اہل بیت ؑ

کے محبوں نے پوری تاریخ میبختی الامکان یہی کوشش کی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کی کما حقہ معرفت حاصل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ خیال کرے کہ یہ عظیم شخصیت صرف ہمارے زمانے میں ہی ہر دل عزیز ہے۔ آج الحمد للہ اسلامی حکومت کا زمانہ ہے اور حکومت قرآن، حکومت علوی اور حکومت اہل بیت ؑ کا دور دورہ ہے۔ جو کچھ دل میں موجزن ہے وہ زبانوں پر بھی جاری ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔

دنیاۓ اسلام کی قدیمی ترین جامعہ (یونیورسٹی) جس کا تعلق تیسری اور چوتھی صدی ہجری سے ہے، حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کے نام پر ہے۔ اسی معروف جامعۃ الازھر کا نام حضرت زہر علیہا السلام کے نام سے اخذ کیا گیا ہے۔ اُن ایام میں حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کے نام پر یونیورسٹی بناتے تھے۔ مصر میں حکومت کرنے والے فاطمی خلفائے سب شیعہ تھے۔ بنا براین، صدیوں سے شیعوں کی یہی کوشش رہی ہے کہ اس عظیم ہستی کی کماحقہ معرفت حاصل کریں۔

عظمت خدا کا ایک نمونہ!

ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم تمام ستاروں سے اپنی راہ تلاش کریں۔ ”وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَبْهَتُونَ“ ۷۔ عاقل انسان کا یہی عمل ہوتا ہے۔ ستارہ جو آسمان پر چمک رہا ہے اُس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ستاروں کی بھی اپنی ایک عجیب اور عظیم دنیا ہے۔ کیا یہ ستارے یہی ہیں کہ جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آسمان پر چمکنے والے ان چھوٹے سے ستاروں میں سے بعض ستارے کہکشاں کہ جس میں خود اربوں ستارے موجود ہیں، سے بڑے ہیں! قدرت الہی کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی اندازہ۔ عاقل انسان کہ جسے خداوند عالم نے قوتِ بصارت دی ہے، کو چاہیے کہ اپنی زندگی کیلئے ان تمام ستاروں کے وجود سے فائدہ حاصل کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ ”وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَبْهَتُونَ“۔ یہ ستاروں کے ذریعے سے راستہ کو پاتے ہیں۔

حضرت فاطمہ علیہا السلام سے درس خدا لیجئے!

میرے عزیز دوستو! عالم خلقت کا یہ درخشاں ستارہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں نظر آرہا ہے، اس کی حقیقت اور مقام و منزلت اس ظاہری اور نظر آنے والے وجود سے بہت بلند و برتر ہے۔ ہم حضرت زہر علیہا السلام سے صرف ایک نور و روشنی دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت اس سے بہت آگے اور بلند ہے۔ میں اور آپ ان بزرگوار ہستی سے کیا استفادہ کرسکتے ہیں؟ روایت میں ہے کہ ”تُظْهِرُ الْأَهْلَ السَّمَاءَ“ عالم ملکوت کے رہنے والوں کی آنکھیں حضرت زہرا علیہا السلام کے نور سے خیرہ ہوجاتی ہیں، تو میں اور آپ کیا حقیقت رکھتے ہیں! یہاں ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم اس عظیم ہستی کے وجود سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ چاہیے کہ اس روشن و درخشاں ستارے سے خدا اور اس کی بندگی کی راہ کو ڈھونڈیں کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے اور فاطمہ زہرا علیہا السلام نے اس راہ کو پایا اور فاطمۃ الزہراء بن گئیں۔ خداوند عالم نے اُن کے وجود کو اعلیٰ و ارفع قرار دیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ وہ عالم مادہ اور عالم ناسوت کے امتحان میں اچھی طرح کامیاب ہوں گی۔

حضرت زہرا علیہا السلام کے صبر اور غور و فکر کی عظمت!

إِمْتَحَنَكَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَكَ فَوَجَدَكَ لِمَا امْتَحَنَكَ صَابِرَةً ۸۔ خدا نے آپ کی تخلیق سے قبل امتحان لیا اور ان تمام حالات میں آپ کو صابر پایا۔ اگر خداوند عالم نے (خلقت سے قبل) اُن کے (نورانی) وجود پر اپنا

خاص لطف کیا ہے تو اُس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام (دنیوی) امتحانات میں کس طرح کامیاب ہونگی۔ ورنہ بہت سے افراد کی شروعات تو بہت اچھی تھیں لیکن کیا وہ سب امتحانات میں کامیاب ہو گئے؟ ہمیں اپنی نجات کیلئے حضرت زہرا علیہا السلام کی زندگی کے اس حصے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ حدیث شیعہ راویوں سے نقل کی ہے کہ پیغمبر اکرم نے حضرت فاطمہ علیہا السلام سے فرمایا ”یا فاطمۃ بنت محمد! لا آغنی عنک من اللہ شیئاً“۔ اے میری پیاری لخت جگر، اے میری فاطمہ میں خدا کیلئے تم کو کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتا ہوں۔ یعنی تم اپنے غور و فکر کے ذریعے سے بارگاہ الہی میں آگے بڑھو اور ایسا ہی تھا۔ وہ اپنی فکر و معرفت کے ذریعے اس مقام تک پہنچیں۔

حوالے

۱ بحار الانوار جلد ۴۳ صفحہ ۲۶

۲ بحار الانوار - جلد ۴۳ صفحہ ۷۶

۳ سورہ طہ / ۲-۱

۴ بحار الانوار جلد ۴۳ صفحہ ۱۶

۵ حضرت استاد مولانا سید آغا جعفر نقوی مرحوم اپنے استاد آیت اللہ شیخ محمد شریعت اصفہانی (آقائے شریعت) سے نقل فرماتے تھے کہ حدیث کسا کی راوی حضرت زہرا ہیں اور یہ آپ کی عظمت و فضیلت ہے کہ آپ حضرت جبرئیل اور خدا کے درمیان ہونے والی گفتگو کو خود سن کر نقل فرما رہی ہیں! (مترجم)

۶ ۱۵ دسمبر ۱۹۹۲ میں نوحہ خوان حضرات سے خطاب

۷ سورہ نحل / ۱۶

۸ مناقب، جلد ۳، صفحہ ۳۴۱